

08 مارچ 2018

برامپٹن، میونسپل الیکشن لڑنے والے افراد کے لیے معلوماتی نشستیں منعقد کرے گا

برامپٹن، آن – سٹی آف برامپٹن، منسٹری آف میونسپل افیئرز کے ساتھ شراکت میں، 2018 میونسپل الیکشن کے ممکنہ امیدواروں اور تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کے لیے بروز منگل مورخہ 3 اپریل 2018 کو ایک معلوماتی نشست منعقد کرے گا۔

معلوماتی نشست کا انعقاد شام 6:30 سے رات 9 بجے تک سٹی ہال کے کونسل چیمبرز، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ، برامپٹن، میں کیا جائے گا۔

اس نشست میں بنیادی تقاضوں کے بارے میں ایک عمومی جائزہ پیش کیا جائے گا، بشمول امیدوار اور تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی اہلیت، ذمہ داریاں، نامزدگی اور رجسٹریشن کا عمل، مہم کی مالیات اور اس کے علاوہ ساتھ کلیدی تاریخی اور وسائل۔

سرخیاں

- یہ نشست ہر ایسے اشخاص کے لیے کھلی ہے جو 2018 میونسپل الیکشن میں امیدوار کے طور پر لڑنے یا تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کے طور پر رجسٹر ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔
- رجسٹریشن لازمی ہے، کیونکہ سیٹوں کی تعداد محدود ہے – برائے مہربانی رجسٹر ہونے کے لیے bramptonvotes@brampton.ca پر ای میل کریں اور یہ بتائیں کہ آیا آپ ایک ممکنہ امیدوار ہیں یا تیسرے فریق کے ایڈورٹائزر ہیں
- امیدوار یا تیسرے فریق کے ایڈورٹائزر بننے کے حوالے سے معلومات [پہاں حاصل](#) کی جا سکتی ہیں
- امیدواروں کی نامزدگی کا دورانیہ 1 مئی کو شروع ہو گا اور 27 جولائی کو ختم ہو گا
- تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی رجسٹریشن 1 مئی کو شروع ہو گی اور 19 اکتوبر کو بند ہو گی
- رائے دہی کا دن 22 اکتوبر ہے
- نامزد شدہ امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریقین کے لیے اگلی معلوماتی نشست کا انعقاد ستمبر 2018 میں ہو گا۔
- مزید معلومات کے لیے شوٹا ڈائنٹن، الیکشنز کوآرڈینیٹر سے 905.874.3952 پر رابطہ کریں۔

اقتباس

"میونسپل الیکشنز ایکٹ میں حالیہ تبدیلیوں میں نئے قوانین کا اضافہ شامل ہے، جیسا کہ تیسرے فریق کی اشتہار بازی کے قوانین اور کونسل کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے انتخاب کنندہ کی جانب سے تصدیق کا تقاضہ۔ چونکہ 2018 میں اس کا پہلی بار نفاذ ہو گا، یہ معلوماتی نشست ممکنہ امیدواروں کو اس بارے میں ایک بہتر سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں مدد دے گی، کہ اگر وہ اپنی نامزدگی جمع کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان سے کیا تقاضہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ تیسرے فریق کے ممکنہ ایڈورٹائزرز کو بھی رجسٹریشن کے تقاضوں کے بارے میں جاننے میں مدد حاصل ہو گی۔"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر برائے برامپٹن میونسپل الیکشن 2018

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654